



# اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:  
شیخ محمد صالح المنجد

اور توحید اسماء وصفات کومتضمن ہے ، اور یہ اقسام ایمان کی روح اور خوشی ہے ، اور روح کا معنی دل کوغمی سے خوشی اور راحت ہے ، اور یہ ایمان کی اصل اور اس کی غایت ہے ، لہذا بندے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اس کی صفات کی معرفت حاصل کرے گا اس کا ایمان بھی اتنا ہی زیادہ اور یقین قوی ہوگا ( التوضیح والبیان لشجرة الایمان للسعدی ص 41

4 - اللہ تبارک وتعالیٰ نے مخلوق پیدا ہی اس لئے کی ہے کہ وہ اسے پہچانیں اور اس کی عبادت کریں ، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ ان سے انتہائی مطلوب ہے -

اس لئے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا کہنا ہے :

( رسولوں کی دعوت کا لب لباب اور اس کی کنجی معبود برحق کی معرفت وپہچان اس کے اسماءوصفات اور افعال کے ساتھ ہے ، اوراسی معرفت پر رسالت کی شروع سے لیکر آخر تک بنیاد اور دارو مدار ہے ) الصواعق المرسلۃ علی الجہمیۃ والمعطلۃ لابن قیم رحمہ اللہ ( 150 / 1 - 151 )

توبندے کااللہ تعالیٰ کی معرفت میں مشغول ہونا اس کام میں مشغول ہونا ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرما یا ہے ، اور اسے ترک و ضائع کرنا ایسا کام ہے جس کے لئے بندہ پیدا کیا گیا ہے اسے نہ کرنا ہے ، اورایمان کا معنی یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا جائے اوراس کی معرفت اور علم حاصل نہ کیا جائے ، اس لئے کہ حقیقت ایمان یہ ہے کہ بندہ اپنے اس رب کوچانے اور پہچانے اور اس کی معرفت حاصل کرے جس پر وہ ایمان لایا ہے ، اور اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اسماء وصفات کے ساتھ حاصل کرنے میں کوشش کرنی چاہئے ، لہذااسے جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اس کا ایمان بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا -

5 - اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کا علم حاصل کرنا ہر معلوم کے ساتھ علم کا اصل ہے ، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے :

( بیشک اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کا علم ہر معلوم چیز کے علم کی اساس اوربنیاد ہے ، لہذا یہ معلومات اس کے سوا ہے یا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوگی یا پھر اس کا امر ، اوریا اس چیز کا علم ہوگا جس کی اللہ تعالیٰ نے تکوین کی ہے ، اور یا اس کا علم ہوگا جو اس نے مشروع کیا ہے ، اور خلق اور امر کے علم کا مصدر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں ، اوریہ دونوں ( خلق و امر ) اسماء کے ساتھ ایسے مرتبط ہے جس طرح کہ تقاضا کی گئی چیز کا ارتباط تقاضا کرنے والے کے ساتھ ہو ، اور اسماء حسنی کا شمار ہر معلوم کے جاننے کا اصل ہے ، اس لئے کہ معلومات اس کا تقاضا ہیں

# اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:  
شیخ محمد صالح المنجد

اور ان سے مرتبط ہیں ---) .